

برائے فوری اجراء

نیشنل پبلک ورکس ویک کی خوشیاں سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر منائیں

برامپٹن، آن (14 مئی 2019) - سڑکوں کی تعمیر، برف ہٹانا، ٹریفک کے سگنل، کراسنگ گارڈز، پارکس کی مرمت و بحالی اور عوامی پلے گراؤنٹز: یہ وہ کام ہے جن کو سٹی کا پبلک ورکس اینڈ انجنئرنگ کا شعبہ سر انجام دیتا ہے تاکہ برامپٹن متحرک رہے۔

نیشنل پبلک ورکس ویک مورخہ 21-24 مئی تک چلے گا اور اس دوران ہماری کمیونٹی میں پبلک ورکس کے پیشہ وارانہ ماہرین کی سخت محنت اور کاوشوں کو سراہا جائے گا۔ پورا ہفتہ چلنے والی متعدد دلچسپ اور دل کو موہ لینے والی سرگرمیوں کے ذریعے سٹی آف برامپٹن اس بارے میں عوامی آگاہی پیدا کرے گا کہ پبلک ورکس کی خدمات ہر روز ہماری کمیونٹی پر کیسے مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز بروز منگل 21 مئی کو صبح 9 بجے برامپٹن سٹی ہال آٹریم اور کین ولینز اسکوائر میں منعقد کی جانے والی افتتاح اور پرچم کشائی کی تقریب سے ہو گا۔

سٹی کی نیشنل پبلک ورکس تقریبات میں درج ذیل شامل ہیں:

- **لوٹر چیلنج**
منگل، 21 مئی صبح 8 تا دن 3
ولیمز پارک وے یارڈ (1975 ولیمز پارک وے)
- **پبلک اوپن باؤس**
منگل، 21 مئی اور بدھ، 22 مئی، صبح 10 تا دن 2 بجے
ولیمز پارک وے یارڈ (1975 ولیمز پارک وے) اور سینڈل ووڈ پارک وے ورکس یارڈ (120 سینڈل ووڈ پارک وے ویسٹ)
- **سٹاف بس پل چیلنج**
جمعرات، 23 مئی، صبح 10 تا دن 12
ویلنگٹن اسٹریٹ (مین اسٹریٹ تا جارج اسٹریٹ)

پورے ہفتے کے دوران چلنے والی تمام تقریبات کی تفصیلات کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم [یہاں کلک کریں](#)۔

اقتباس

پبلک ورکس کے پیشہ وارانہ ماہرین ہماری روزمرہ زندگیوں میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ سڑکوں، پگڈنڈیوں اور پلوں کی تعمیر کے ذریعے شہریوں کے طبعی روابط کو استوار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شجرکاری کی مہمات اور خوبصورت پارکس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے لوگوں کو سماجی طور پر بھی باہم مربوط رکھتے ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور یہ لوگ مصروف شاہراہوں پر بچوں کو سڑک عبور کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ یہ سالانہ تقریب ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جو برامپٹن کو متحرک رکھنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca